






وُسی کی بہن نے کیا کہا؟

What Vusi's sister said

-  Nina Orange
-  Wiehan de Jager
-  Samrina Sana
-  Urdu / English
-  Level 4

(imageless edition)



ایک صبح موسیٰ کی نانی نے اُسے بلایا، موسیٰ، مہربانی کر کے یہ انڈہ اپنے امی
ابو کے پاس لے جاو۔ وہ تمہاری بہن کی شادی کے لیے ایک بڑا کیک بنانا
چاہتے ہیں۔

...

Early one morning Vusi's granny called him, "Vusi, please
take this egg to your parents. They want to make a large
cake for your sister's wedding."

اپنے والدین کی طرف جا تے ہوئے، موسیٰ دو لڑکوں سے ملا جو کہ پھل چن
رہے تھے۔ ایک لڑکے نے موسیٰ سے انڈہ کھینچا اور درخت پر دے
مارا۔ انڈا ٹٹ گیا۔

...

On his way to his parents, Vusi met two boys picking fruit.
One boy grabbed the egg from Vusi and shot it at a tree.
The egg broke.

یہ تم نے کیا کیا؟ موسیٰ رویا! یہ انڈہ کیک کے لیے تھا۔ کیک میری بہن کی شادی کے لیے تھا۔ میری بہن کیا کہے گی اگر اُس کی شادی پر کیک نہ ہو؟

...

“What have you done?” cried Vusi. “That egg was for a cake. The cake was for my sister’s wedding. What will my sister say if there is no wedding cake?”

لڑکے موسیٰ کو تنگ کرنے پر شرمندہ تھے۔ ہم لڑکے کے لیے تو تمہاری مدد نہیں کر سکتے، لیکن یہ چلنے کے لیے چھڑی اپنی بہن کے لیے رکھ لو۔ ایک لڑکے نے کہا، موسیٰ نے سفر جاری رکھا۔

...

The boys were sorry for teasing Vusi. "We can't help with the cake, but here is a walking stick for your sister," said one. Vusi continued on his journey.

راستے میں وہ دو مردوں سے ملا جو کہ گھر تعمیر کر رہے تھے۔ کیا ہم یہ مصنوعی
چھڑی استعمال کر سکتے ہیں؟ ایک نے پوچھا؟ لیکن چھڑی گھر تعمیر کرنے
کے لیے اتنی مصنوعی نہ تھی اور وہ ٹوٹ گئی۔

...

Along the way he met two men building a house. "Can we use that strong stick?" asked one. But the stick was not strong enough for building, and it broke.

یہ تم نے کیا کیا؟ موسیٰ رویا! یہ چھڑی میری بہن کا تحفہ تھا۔ پھل چننے والوں نے مجھے یہ تحفہ دیا کیونکہ انہوں نے کیک کے لیے انڈہ توڑ دیا۔ کیک میری بہن کی شادی کے لیے تھا۔ اب میرے پاس نہ انڈہ ہے، نہ کیک اور نہ ہی کوئی تحفہ۔ میری بہن کیا کہے گی؟

...

“What have you done?” cried Vusi. “That stick was a gift for my sister. The fruit pickers gave me the stick because they broke the egg for the cake. The cake was for my sister’s wedding. Now there is no egg, no cake, and no gift. What will my sister say?”

تعمیر کرنے والے چھڑی توڑنے پر شرمندہ ہوئے۔ ہم تمہاری مدد لیکر
کے لیے نہیں کر سکتے۔ لیکن تمہاری بہن کے لیے کچھ گھاس ہے۔
ایک نے کہا۔ اور ووسی نے اپنا سفر جاری رکھا۔

...

The builders were sorry for breaking the stick. "We can't help with the cake, but here is some thatch for your sister," said one. And so Vusi continued on his journey.

راستے میں، ہوسی ایک کسان اور ایک گا اے سے ملا۔ کیا لذیذ گھاس ہے؟
کیا چھے ایک گہھی مل سکتی ہے؟ گا اے نے پوچھا۔ لیکن گھاس اتنا مزیدار
بھا کہ گا اے سارا کھا گئی۔

...

Along the way, Vusi met a farmer and a cow. "What delicious thatch, can I have a nibble?" asked the cow. But the thatch was so tasty that the cow ate it all!

یہ تم نے کیا کیا؟ موسیٰ رویا! وہ گھاس میری بہن کے لیے تحفہ تھا۔ تعمیر
کر نے والوں نے مجھے وہ گھاس دیا کیونکہ انہوں نے پھل چننے والوں
کی دی ہوئی چھڑی توڑ دی۔ پھل چننے والوں نے مجھے وہ چھڑی دی کیونکہ
انہوں نے وہ انڈا توڑ دیا جو میری بہن کی شادی کے کیک کے لیے تھا۔ اور
کیک میری بہن کی شادی کے لیے تھا۔ اب نہ میرے پاس انڈہ ہے، یہ کیک
ہے، نہ ہی تحفہ۔ میری بہن کیا کہے گی؟

...

“What have you done?” cried Vusi. “That thatch was a gift for my sister. The builders gave me the thatch because they broke the stick from the fruit pickers. The fruit pickers gave me the stick because they broke the egg for my sister’s cake. The cake was for my sister’s wedding. Now there is no egg, no cake, and no gift. What will my sister say?”

گا اے اپنے لالھی پن پر بہت شرمندہ ہوئی۔ کسان اس بات پر راضی ہو گیا کہ
گا اے موسیٰ کے ساتھ بطور تحفہ جا اے گی۔ اور اس طرح موسیٰ نے اپنا
سفر جاری رکھا۔

...

The cow was sorry she was greedy. The farmer agreed that the cow could go with Vusi as a gift for his sister. And so Vusi carried on.

لیکن گا اے بھاگتی ہوئی کسان کے پاس آئی کیونکہ وہ کھا نے کا وقت تھا اور
وُسی اپنے سفر میں کہیں کھو گیا۔ وہ اپنی بہن کی شادی پر بہت دیر سے پہنچا۔
مہمان پہلے ہی کھانا کھا رہے تھے۔

...

But the cow ran back to the farmer at supper time. And
Vusi got lost on his journey. He arrived very late for his
sister's wedding. The guests were already eating.

اب میں کیا کروں؟ موسیٰ رویا! وہ گا اے جو بھاگ گئی ایک تحفہ بھی اُس گھاس
کے بدلے جو مجھے تعمیر کرنے والوں نے دیا۔ تعمیر کرنے والوں
نے مجھے وہ گھاس اس لیے دی کیونکہ انہوں نے مجھے پھل چننے
والوں کی طرف سے دی گئی چھڑی کو توڑ دیا تھا۔ پھل چننے والوں نے
مجھے وہ چھڑی اس لیے دی کیونکہ انہوں نے کیک کے لیے انڈا توڑ دیا
تھا۔ کیک شادی کے لیے تھا۔ اب نہ انڈہ ہے، نہ کیک اور نہ ہی کوئی تحفہ۔

...

“What shall I do?” cried Vusi. “The cow that ran away was a gift, in return for the thatch the builders gave me. The builders gave me the thatch because they broke the stick from the fruit pickers. The fruit pickers gave me the stick because they broke the egg for the cake. The cake was for the wedding. Now there is no egg, no cake, and no gift.”

وُسی کی بہن نے ہھوڑی دیر کے لیے سوچا۔ پھر اُس نے کہا وُسی میرے
بھائی جے تمہارے تحفوں کی واقعی کوئی پرواہ نہیں ہے نہ ہی مجھے اُس کیک
کی پرواہ ہے۔ ہم سب یہاں اکٹھے ہیں، میں خوش ہوں۔ اب جا کر اپنے
اچھے سے کپڑے پہنو، چلو آج کے دن کی خوشیاں منا تے ہیں! اور یہی
وُسی نے کیا۔

...

Vusi's sister thought for a while, then she said, "Vusi my brother, I don't really care about gifts. I don't even care about the cake! We are all here together, I am happy. Now put on your smart clothes and let's celebrate this day!" And so that's what Vusi did.



Storybooks UK

global-asp.github.io/storybooks-uk

وُسی کی بہن نے کیا کہا؟

What Vusi's sister said

Written by: Nina Orange

Illustrated by: Wiehan de Jager

Translated by: Samrina Sana (ur)

This story originates from the African Storybook (africanstorybook.org) and is brought to you by Storybooks UK in an effort to provide children's stories in UK's many languages.



This work is licensed under a Creative Commons
[Attribution 3.0 International License](http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/).

